



سلسلہ  
مواعظ حسنہ نمبر ۳۶

# عشقِ سالیٰ کا صحیح مفہوم

عَارِفُ بَاللّٰهِ حَضْرَتُ أَقِيدُ مَوْلَانَا شَاهِ حَكَمِيْمُ مُحَمَّدُ اخْتَرُ صَابَدَهُ كَاتِبُهُمْ

حُكْمَتُبَ خَانَہ مَظَہَرِی

گلشنِ اقبال ٹیوست پکس ۱۱۸۲  
کراچی فون: ۳۶۸۱۱۲ ۳۹۹۲۱۴۶

سلسلہ مواعظ حسنہ نمبر ۳۶

# عَشْر سال تَشْهِيد مُحَمَّد مُنْجُوم

عارف بالله حضرت اقیس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صادق دہکلائی ہم

حَلَّبَيْ خَانَةِ مَظْرُوْيَّ

گلشنِ اقبال پوسٹ بکس ۱۱۷۲  
کراچی فون: ۰۳۱۸۱۱۲-۳۹۹۲۱۴۶

## انتساب

اگرچہ جملہ انتساب و ایجاد نہ رکھتے، مرشد ہے وہ مگر اس  
حضرت اقدس شریف امام ساہب دامت برکاتہم علیہ حضرت اقدس  
مولانا شاہ عبداللہ صاحب پوری بوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس  
مولانا شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھتوں کے لئے  
انکات کا بھروسہ ہے۔

اگرچہ اگرچہ

نام و عط = عشیں سارے کوئی نہ ہو

واعظ = غافل احمد حضرت شاہ حکیم محمد اختر حیدر حکیم

جامع و مرتب = سید عشرت جیل میر

کپوزنگ = الاشرف کپوزرز فون : ۳۶۸۱۱۲

اشاعت اول = ربع الاول ۱۳۲۱ھ مطابق جون ۱۹۰۰ء

**حَلَّتْ بِعْدَ حَانَةِ مَطَرِّي**

گلشنِ اقبال ۲ پوسٹ بکس ۱۱۸۲ کراچی فون ۳۶۸۱۱۲-۳۹۹۲۱۴۶

## فہرست

محلی مارک کی نام

عنوان	صفحہ
عشق الہی اور عشق رسالت کا معتبر راستہ	۱
خلاف سنت عشق غیر مستند اور غیر معتبر ہے	۳
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے اعلیٰ طریقہ	۳
طریق صحابہ کے علاوہ ہر راستہ غیر معتبر ہے	۵
نافرمانی رسول کے ساتھ دعویٰ عشق باطل ہے	۶
دائرہ حسینی رکھنا دلیل عشق رسول ہے	۷
تازیاتِ عبرت	۸
دائرہ حسینی سے شکل حسین معلوم ہوتی ہے	۹
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے	۹
محبت کی ایک خاص علامت	۱۲
نفس کی مغلوبیت غلبہ روحانیت کی دلیل ہے	۱۳
نزول رحمت کی علامت	۱۴
معصیت را وثقاوت ہے	۱۵
گناہ کا ایک خاص عذاب	۱۵
ذکر بے لذت بھی نافع ہے	۱۶

صفحہ	عنوان
۱۶	حالت تشویش ذکر اللہ کے نافع ہونے کی عجیب مثال
۱۷	دوسرا مثال
۱۸	ذکر کے نافع ہونے کی تیری عجیب مثال
۱۹	اہل باطل کی صحبت سخت مضر ہے
۲۰	صحبت اہل اللہ کے انوار و برکات
۲۱	مطالعہ کتب کے متعلق ایک اہم مشورہ
۲۲	دین کس سے یکھنا چاہئے؟
۲۳	عشق و محبت کے حدود
۲۴	اسوہ حسنہ کے خلاف کوئی عمل قبول نہیں
۲۵	شیطان کی ایجاد اور اس کا ضرر عظیم
۲۶	استقامت علی الدین کے لئے دواہم و ظیغے
۲۷	مالک تعالیٰ شانہ کی طرف سے غلاموں کو پیغام دوستی
۲۸	ولی اللہ بننے کا طریقہ



## عشق رسالت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا صحیح مفہوم

عارف بالله مرشدنا و مولانا حضرت شاه حکیم محمد اختر صاحب اطہار  
الله ظلالہم علینا و ادام اللہ فیوضہم و انوارہم و برکاتہم الی  
یوم الدین کا یہ عاشقانہ بیان جو ۱۳ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ مطابق ۱۹۰۵ء  
اگست ۱۹۹۵ء قبل نماز جمعہ مسجد اشرف گلشن اقبال بلاک ۲ میں ہوا  
جس میں حضرت اقدس کی زبان عشق نے نہایت درد دل کے  
ساتھ واسع فرمایا کہ حقیقی عشق رسول کیا ہے۔ (مرتب)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد  
فَاغُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَالَّذِينَ آتُوهَا أَشَدَّ حُبًا لِلَّهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

عشق الہی اور عشق رسالت کا معتربر راستہ

حضرت حکیم الامت مجدد امّلت مولانا اشرف علی تھانوی

صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور سرور  
 عالم ﷺ کا عشق وہی معتبر ہے جو سنت کے راستے سے حاصل  
 ہو۔ اگر حضور ﷺ کے طریقے سے ہٹ کر مثلاً طبلہ، سارنگی  
 اور گانے بجانے سے تڑپ اور عشق پیدا ہو تو یہ عشق معتبر  
 نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ﷺ سے فرمایا کہ آپ  
 اعلان فرمادیں ”فُلِّ إِنْ شَكْتُمْ تُحْجُّونَ اللَّهُ فَأَتَبِعُونِي“ اگر تم اللہ  
 سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو ”يُخَبِّئُكُمُ اللَّهُ“ تو اللہ  
 تمہیں پیار کریگا جس کا ترجمہ حضرت شاہ فضل رحمن عجیج مراد  
 آبادی ”یوں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب  
 ﷺ سے اعلان کروادیا کہ اگر تم اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہو تو  
 میرا چلن چلو۔ ہمارا پیارا نبی ﷺ ایسا پیارا ہے کہ جو اس کی  
 چلن چلتے ہیں ان پر بھی ہم کو پیار آتا ہے، ہم ان کو بھی اپنا  
 پیارا بنایتے ہیں۔ آپ دنیاوی محبت میں دیکھئے کہ کسی کا ایک بیٹا  
 ہو اور اس بیٹے کی طرح محلہ کا کوئی لڑکا چل رہا ہو تو بابا کو اس  
 پر بھی پیار آتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بیٹے کی طرح چلتا ہے۔  
 تو حضور ﷺ کے اتنے پیارے ہیں کہ جو بھی ان کی  
 چلن چلتا ہے اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا کیا حال  
 ہے کہ آپ کی سنت کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم حضور ﷺ کی  
 محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو حضور ﷺ کے نقش

قدم پر چلے اور جن کو رضی اللہ عنہم و رضوانہ کا پروانہ مل  
گیا کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو  
ان کا راستہ کتنا مستند ہے اور اسی سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے  
طریقہ کو چھوڑ کر عشق کا دعویٰ غیر معتبر ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

مستند رستے وہی مانے گئے  
جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے  
لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے  
تاب منزل صرف دیوانے گئے

### خلاف سنت عشق غیر مستند اور غیر معتبر ہے

صحابہ جس راستے سے گزرے ہیں وہی راستہ مستند ہے ،  
وہی راستہ معتبر ہے۔ بتاؤ کوئی ہے صحابی جس نے حضور ﷺ کی  
محبت میں بینڈ باجے اور گانے بجانے کے ساتھ جلوس نکالا ہو ؟  
آہ نکلتی ہے آج ان نالائقوں اور جاہلوں پر کہ نمازوں کی کوئی  
پرواٹیں، نمازوں کا وقت جارہا ہے اور پیر صاحب گھوڑے پر  
بیٹھنے ہوئے ہیں اور طبلے سارنگی کے ساتھ بینڈ باجے کی دھن پر  
نعت شریف ہو رہی ہے اور نماز فرض قضا ہو رہی ہے۔ آپ  
بتائیے یہ کون سا عشق ہے بھائی؟ کیا صحابہ نے کبھی ایسا کیا؟ یہ  
سب کیا ہے؟ محض ایک تماشہ ہے، کھیل کو د ہے، اس کو سنت

کے راستے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ ضرور اس کو اختیار کرتے۔ جو جان دے سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں وہ یہ بینڈ باجا جلوس نہیں نکال سکتے؟ بتاؤ جان دینا زیادہ مشکل ہے یا یہ بینڈ بجانا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ حضور ﷺ سے محبت کا کیا طریقہ ہے۔

### حضور ﷺ سے محبت کا سب سے اعلیٰ طریقہ

حضور ﷺ سے محبت کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے حضور ﷺ پیدا ہوئے تھے یعنی بندوں کو اللہ کی مرضی پر چلانے کے لئے، ہمارے نفس نالائق کو مٹانے کے لئے، اعمال کی اصلاح کے لئے اس پر عمل کر کے ہم جان پاک رسالت ﷺ کو خوش کر دیں لہذا اگر اس مبارک مہینہ میں محبت کا حق ادا کرنا ہے تو جنہوں نے ڈاڑھیاں نہیں رکھیں وہ ڈاڑھیاں رکھ لیں، جن کے پاجامے ختنے کے نیچے ہیں اور وہ بخاری شریف کی حدیث مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبِينَ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ کی عید کے مستحق ہیں وہ آج ختنے کھول لیں، پانچوں وقت کی نمازوں کا ارادہ کر لیں، بیویوں کی اگر پٹائی کر رہے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں غرض جتنے ظلم ہیں، اغوا برائے توان ایا قتل و خون وغیرہ ان سب جرائم سے باز آجائیں تو سمجھ لو ہم نے

عشق رسالت ﷺ کا حق ادا کر دیا، حضور ﷺ کی روح مبارک کو خوش کر دیا مگر بجائے اصلاح عمل کے آج حضور ﷺ کی محبت کا حق یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بینڈ باجے لائے جائیں اور کیا کیا تماشے کئے جائیں اور شراب پی کر ساری رات قوائی پڑھی جائے۔ چشم دید واقعہ ہے کہ ایسی ہی ایک مجلس میں کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور شراب پی کر رات پھر قوائی کرتے رہے، بتائیے افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ کیا اسلام اس کا نام ہے؟ ہرگز یہ اسلام نہیں۔

### طريق صحابہ کے علاوہ ہر راستہ غیر معتبر ہے

اسلام وہی ہے جو حضور ﷺ نے ہمیں عطا فرمایا، اسلام وہی ہے جو حضرات صحابہ کا عمل تھا۔ حضرات صحابہ کا طریقہ دیکھو۔ جس چیز پر صحابی نے عمل کیا وہی معتبر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرات صحابہ سے بڑھ کر حضور ﷺ کی حدیث کو کوئی سمجھنے والا ہے؟ لہذا خوب سمجھ لو کہ حدیث کا مفہوم وہی معتبر ہے جو حضرات صحابہ نے سمجھا، ان سے زیادہ ہمیں عقل و فہم نہیں ہے۔ جن کی تعریف خدا نے کی ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو خود فیصلہ کرو کہ پھر ان کے کام کیسے ہونگے لہذا جو کام بھی کیجئے چاہے خوشی میں یا غنی میں ختنہ میں

یا عقیقہ میں، شادی کے موقع پر یا کسی کی موت پر ہمیشہ علماء کرام سے پوچھ کر سمجھئے۔ علماء بتائیں گے کہ حضرات صحابہ نے کیا عمل کیا، احادیث کا مفہوم حضرات صحابہ نے کیا سمجھا کیونکہ ان ہی کا راستہ مستند ہے۔

مستند رستے وہی مانے گئے  
جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے

جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم نازل فرمایا اپنی رضا کی  
سند دے دی، جن کے اعمال پر اللہ نے اپنی خوشیوں کا اطلاق  
کر دیا ان کو چھوڑ کر آپ ان لوگوں کی بات مانتے ہیں جن کیلئے  
کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، بتائیے کون مستند عمل ہے؟ صحابہ  
کے اعمال جن پر رضا اللہ کی مہر ثبت ہے یا ان جاہلوں کے  
اعمال جن پر اللہ کی خوشی کی کوئی رجسٹری نہیں بلکہ خلاف سنت  
ہونے کے سبب غصب اللہ کا اندیشہ ہے۔

نافرمانی رسول کے ساتھِ دعویٰ عشق باطل ہے

اگر ذرا بھی عقل ہو تو آدمی خود سمجھے جائے کہ یہ کون سا  
عشق رسالت ہے کہ فرض نماز غائب اور بینڈ باجوں پر نعمت  
شریف پڑھی جا رہی ہے جبکہ سرورِ عالم ﷺ نے فرمایا کہ میں  
گانے بجانے یعنی ساز و موسيقی کو مٹانے کے لئے آیا ہوں۔ کیا

آپ کے فرائیں عالی شان کی مخالفت کرتا یہ عشق رسالت ہے؟  
 بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ڈاڑھی کو بڑھاؤ اور  
 موٹچھوں کو کٹاؤ لیکن آج دیکھو تو انہا معاملہ ہے کہ بعض لوگ  
 موٹچھیں بڑھاتے ہیں اور ڈاڑھی کٹاتے ہیں اور بعض لوگ  
 موٹچھیں تو کٹا چکے ہیں لیکن وہ ذرا سی ہمت اور کر لیں کہ  
 ڈاڑھی بڑھالیں تو سونی صد نمبر سے کامیاب ہو جائیں گے  
 کیونکہ یہ موٹچھیں کچھ کام نہ دیں گی، قیامت کے دن ڈاڑھی ہی  
 کام آئے گی۔ یہ مت سمجھو کہ بوڑھے ہو کر ڈاڑھی رکھ لیں  
 گے کیونکہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے۔  
 ابھی اسی ہفتہ میں ہمارے ایک اللہ والے دوست، ایک کانج کے  
 پرنسپل کا اچانک ہارت فیل ہو گیا۔ نماز کی حالت میں دورہ چڑا،  
 بہپتال تک نہیں جاسکے۔

نہ جانے بلے پیا کس گھڑی  
 تو رہ جائے تکنی کھڑی کی کھڑی

ڈاڑھی رکھنا دلیلِ عشق رسول ہے

آہ! درد دل سے کہتا ہوں واللہ آپ کی بھلائی کیلئے کہتا  
 ہوں، آپ کے احترام و عزت کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہتا  
 ہوں کہ نبی پاک ﷺ کی شکل بنالو۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث

ہے کہ روؤ اور اگر روتا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو۔ تو معلوم ہوا کہ شکل بھی کام دے جاتی ہے، کم سے کم قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکیں گے کہ۔

ترے محبوب کی یا رب شبات لے کے آیا ہوں  
حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں

چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے،  
منڈانا اور کترانا حرام ہے۔ ایک مشت تینوں طرف سے واجب  
ہے، اس حکم میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سوچنے کہ اگر قبر میں  
جنازہ اتر گیا تو گالوں کو کیڑے کھاجائیں گے۔ موت کے بعد  
کھیتی کی زمین بھی چھن جائے گی، پھر کہاں غله بوو گے،  
پھر حضور ﷺ کا باغ کہاں لگاؤ گے۔

### تازیۃۃ عبرت

سکھوں سے سبق لو کہ یہ ظالم کافر ہو کر اپنے پیشوں کی  
محبت میں داڑھی رکھتے ہیں حالانکہ بوجہ کفر کے یہ داڑھی ان کو  
کچھ مفید نہیں لیکن ایک سکھ بھی ایسا نہیں ملے گا جو ڈاڑھی  
منڈاتا ہو۔ لیکن آہ! آج امت محمد ﷺ کو کیا ہو گیا کہ اپنے  
پیغمبر ﷺ کی شکل نہیں بناتے اور سمجھتے ہیں کہ ڈاڑھی سے  
میری شکل خراب معلوم ہو گی۔

## ڈاڑھی سے شکل حسین معلوم ہوتی ہے

میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ڈاڑھی رکھنے کے بعد بتاتا کہ شکل کیسی معلوم ہوتی ہے۔ پھر کہو گے کہ افسوس آج تک ہم نے ڈاڑھی کیوں نہیں رکھی تھی، اگر ڈاڑھی رکھنے سے شکل خراب لگتی تو اللہ اپنے پیغمبروں کو حکم نہ دیتا کہ ڈاڑھی رکھو۔ آپ بتائیے کہ کیا کوئی اپنے پیاروں کی شکل خراب کرتا چاہتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنے پیاروں کو خراب شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے پیارے پیغمبروں کو خراب شکل میں دیکھنا پسند کرتا۔ معلوم ہوا کہ ڈاڑھی اللہ کے پیاروں کی شکل ہے لہذا یہ خود دلیل ہے کہ یہ پیاری چیز ہے اور اس سے شکل پیاری معلوم ہوتی ہے۔

## حضرت علیہ السلام کی محبت کے تقاضے

اس لئے میں آپ لوگوں سے نہایت درد دل سے فریاد کرتا ہوں کہ حضور ﷺ کی محبت میں آج کے مبارک دن میں، اس مبارک مہینہ میں کچھ اچھے ارادے کرو۔ اے ڈاڑھی نہ رکھنے والو! ہمت کر کے ڈاڑھی رکھ لو۔ ان شاء اللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہوی بھی آپ سے دعا کرائے گی، سارا

معاشرہ آپ سے دعا کرائے گا، آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اور اے ٹختے چھپانے والو! آج سے ارادہ کرو کہ حضور ﷺ کی پیدائش کے اس مبارک مہینہ میں آج سے ہم اپنا ٹختہ نہیں چھپائیں گے اور آج سے ہم کسی ٹیڈی یا ٹیڈوں کو اور حسین یا حسینہ کو نہیں دیکھیں گے، اپنی نظر کی حفاظت کریں گے کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے زِنَةُ الْعَيْنِ النَّظَرُ یعنی نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ لو نہ دو دیکھ تو لو۔ سبحان اللہ! یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کچھ گناہ نہیں کرتے تو دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ حالانکہ دیکھنے کے بارے میں ہی تو حضور ﷺ فرمادی ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ غرض جو لوگ جس گناہ میں بھی بتلا ہیں آج حضور ﷺ کی محبت میں دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو ترک کر دیں گے مثلاً جو بڑی بڑی موچھیں رکھتے ہیں آج سے نہیں رکھیں گے کیونکہ سرور عالم ﷺ فرماتے کہ میری شفاعت ان کو نصیب نہیں ہو گی۔ عبارت نبوت، الفاظ نبوت بھی پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ مَنْ طَوَّلَ شَارِبَةً لَمْ يَنْلُ شَفَاعَتِيْ جو بڑی موچھ رکھے گا جس سے ہونٹ کے کنارے چھپ جائیں میری شفاعت نہیں پائے گا۔ بتاؤ موچھوں سے فائدہ ملے گا یا شفاعت

نبوی سے فائدہ ملے گا۔ لہذا آج جتنے حاضرین ہیں جن کے  
ڈاڑھیاں نہیں ہیں وہ ڈاڑھی رکھ لیں اور جن کے ڈاڑھی ہے  
مگر ایک مشت نہیں ہے وہ کتنا چھوڑ دیں کیونکہ کتنا بھی حرام  
ہے، گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ سے اللہ کے ولی نہیں بن سکتے  
ہو۔ جن کو خوش کر رہے ہو واللہ یہ قبروں میں کچھ کام نہیں  
دیں گے، جن کو خوش کرنے کے لئے اللہ و رسول کو تاخوش  
کر رہے ہو اور لوگوں سے ڈر رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تو  
تباہ یہ لوگ کام آئیں گے یا اللہ و رسول؟ افسوس آج ہمارا کیا  
حال ہے۔ ایک شخص نے حضرت حکیم الامت تھانویؒ کو لکھا کہ  
مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں ڈاڑھی رکھ لوں گا تو  
لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو فرمایا کہ ارے لوگوں سے تو  
لگائی ڈرتی ہے۔ ظالم تو بھی تو لوگ ہے لگائی تو نہیں ہے جو  
لوگوں سے ڈر رہا ہے۔ مردانہ وار اعلان کر دے کہ میں بھی  
مرد ہوں، میں لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ میں علی الاعلان ڈاڑھی  
رکھتا ہوں کیونکہ میری قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، قیامت  
کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ لہذا دنیا والو! سن لو۔

کہاں تک ضبط بے تابی کہاں تک پاس بدناہی  
کیجہ تھام لو یادو کہ ہم اب ڈاڑھی رکھتے ہیں

کہہ دو کہ اگر میری ڈاڑھی تم کو بری لگتی ہے تو اپنی آنکھیں بند کرو مگر مجھے اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے، سرور عالم ﷺ کو منہ دکھانا ہے لہذا کیا مخلوق سے ڈرتا ہے۔ جو مخلوق سے ڈرتا ہے ابھی اللہ کا عاشق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی تعریف میں فرمایا لا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا إِيمَنْ۔ یعنی جو میرے عاشق ہیں وہ مخلوق سے نہیں ڈرتے، کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے۔

### محبت کی ایک خاص علامت

لہذا میں آپ لوگوں سے گذارش کرتا ہوں کہ اس مبارک مینے میں جس کو جس گناہ کی عادت ہے خواہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی سب سے توبہ کرو۔ بعضوں کا ظاہر تو بالکل صوفی ہوتا ہے لیکن عملاً وہ بھی نافرمانیوں میں جلتا ہیں، ڈاڑھی رکھ کر بھی عورتوں کو تاک جھانک کر رہے ہیں، لڑکوں کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں تو دل میں گندے گندے خیال پکار رہے ہیں اس لئے آج سے ارادو کرلو کہ اے خدا میں سو نیصد آپ کا بننا چاہتا ہوں اور یہ اعلان کردو جو اس شعر میں ہے۔

نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا  
انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں

ہتاو کس نے ہمیں پیدا کیا؟ الہذا کس کا بننے میں فائدہ ہے؟ اپنے نفس کا بننے میں فائدہ ہے؟ شیطان کا بننے میں فائدہ ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے میں فائدہ ہے یا اللہ کو خوش کرنے میں؟ ارے دوستو! ہمارا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ساری دنیا میں اگر ایک بھی ڈاڑھی والا نہ ہوتا تو بھی ہم اپنے اللہ کو خوش کرنے کیلئے ڈاڑھی رکھ کر اپنا جہنڈا اونچا کر دیتے، کوئی کہتا کہ یہ کیا کیا تو کہتے کہ اپنے رب کا کہا کیا، ہماری نظر آسمان پر ہے، اے مٹی کے ڈھیلوں کی طرح زمین پر پڑے رہنے والو، کاش اللہ تعالیٰ ہم سب کی نظر کو اپنی طرف کر دے تو کام بن جائے۔ ہمت سے کام لو کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔

سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے  
پیش نظر تو مرضی جانانہ چاہیے  
پھر اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ  
کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے

### نفس کی مغلوبیت غلبہ روحانیت کی دلیل ہے

اپنے نفس کو لومزی بنا کر رکھو۔ نفس کہے کہ اس لڑکے کو دیکھ لو، اس لڑکی کو دیکھ لو تو اس سے کہہ دو کہ نفس لومزی

تو میرا مقابلہ کرتی ہے، جانتی نہیں کہ میں شیر ہوں، روحاںی شیر ہوں، میں بھلا تیری بات مانوں گا! اے نفس لومزی! تو پیشاب پاخانے کی پلیٹ پر سونے چاندی کا ورق دکھا کر مجھے لپھانا چاہتی ہے، اگر پاخانے کے اوپر چاندی کا ورق لگادیا جائے تو کیا کوئی اس کو کھائے گا۔ ان حسینوں کا سن ظاہری ہے، اندر پیشاب پاخانہ بھرا ہوا ہے۔ تو ان حسینوں سے عشق بازی کا انجم اس کے سوا کیا ہو گا کہ پیشاب اور پاخانہ کے مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ مگر افسوس کہ نفس کے بندوں کی سمجھ میں یہ باتیں کہاں آتی ہیں، قسم والوں کو توفیق توبہ نصیب ہوتی ہے۔

### نزول رحمت کی علامت

میں مسجد میں کہتا ہوں واللہ جس پر حق تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نفس امارہ کے شر سے نکل جاتا ہے۔ اس لئے حضور ﷺ نے ہمیں یہ دعا سکھائی **اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي اَعِنَ اللَّهَ بِجَهَنَّمَ** کر دے کہ جس سے میں آپکی نافرمانی چھوڑ دوں، گناہوں کو چھوڑ دوں، وہ رحمت دے دے جس سے نفس امارہ کے پنج سے نکل جاؤ۔

## معصیت را شقاوت ہے

وَ لَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ اور مجھے اپنی نافرمانی سے شقی اور بدجنت نہ بنا۔ دوستو! گناہوں سے انسان بدجنت ہو جاتا ہے اور نیکیوں سے اللہ کا پیارا اور محبوب ہو جاتا ہے اور گناہ کا مزہ تھوڑی دیر کا ہے۔

لذت عارضی ملی عزت دائمی گئی  
ذرادیر کی لذت ہمیشہ کیلئے عذاب، ہر وقت کی پریشانی ہے،  
توبہ بھی کر لے گا مگر تقاضائے معصیت کی شدت سے عذاب  
میں رہے گا۔

## گناہ کا ایک خاص عذاب

غور سے سن لیجئے یہ بات بہت گر کی بات بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے گناہ کر لیا اور پھر توبہ بھی کر لی اگرچہ توبہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کی دعا کام آگئی اسکی کوئی نیکی کام آگئی لیکن جس نے زندگی میں ایک بار گناہ کر لیا توفیق توبہ کے بعد بھی وہ تقاضائے گناہ کی شدت کے عذاب میں ساری زندگی رہے گا، سن لو یہ اختر کا اعلان، آہ! میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھولیور ضلع اعظم گڑھ میں وضو فرمادے تھے کہ وضور وک کر اچانک فرمایا کہ حکیم اختر جس نے

کبھی بھی کوئی گناہ کر لیا وہ توبہ بھی کر لے گا اور اللہ کا پیارا بھی ہو جائے گا لیکن ساری عمر اس کو وسوسرے گناہ سے نجات نہیں ملے گی یہ مجاہدہ اس کو ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ اس لئے دوستو کوشش کرو کہ گناہ ہونے ہی نہ پائے تاکہ تقاضائے معصیت میں شدت نہ ہو اور عافیت سے رہو۔

### ذکر بے لذت بھی نافع ہے

اور دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر میں مزہ آئے یا نہ آئے، ذکر بے لذت بھی آپ کو ولی اللہ اور صاحب نسبت بنادے گا۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تشویش اور خیالات و وساوس کے ساتھ بھی ذکر اللہ نفع سے خالی نہیں۔ اس کی تین مثالیں سنئے:-

حالت تشویش میں ذکر اللہ کے نافع ہونے کی ایک عجیب مثال

مکہ شریف میں دکاندار دس حاجیوں میں گھرا ہوتا ہے، اس کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ سکون سے روٹی کھائے دس گاہوں میں گھرا ہوا ہے، کسی کو رومال پکڑا رہا ہے کسی کو تسبیح دے رہا

ہے کسی کو مصلحت دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ ڈبل روٹی بھی کھاتا جا رہا ہے لیکن تشویش کے ساتھ اس کھانے سے اسکی صحت قائم رہتی ہے کہ نہیں؟ مصروفیت اور تشویش کے ساتھ لقدم پیٹ میں جا کر جسم کو طاقت دیتا ہے۔ جس طرح کھانا تشویش کی حالت میں حیات جسمانی کا سبب ہے اسی طرح حیات ایمانی کیلئے حالت تشویش میں ذکر بھی مفید ہے۔ لہذا ایمانی حیات کیلئے حالت تشویش، حالت وساوس، حالت خیالات، ہجوم اوہام میں بھی ذکر جاری رکھو۔ یہ ذکر آپ کی حیات ایمانی کی ضمانت و کفالت کیلئے کافی ہے۔

### دوسری مثال

اور دوسری مثال یہ ہے کہ اصلی موتی کا خیرہ، سو روپیہ کی ایک چینی، آپ نے منہ میں ڈالا کہ اچانک کسی نے کوئی تشویش کی خبر دی کہ جس سے دل پریشان ہو گیا، لیکن جب حلق سے وہ خیرہ اتر گیا تو باوجود تشویش و وساوس و خیالات کے وہ خیرہ کام دکھائے گا یا نہیں؟ جب موتی اور بادام کا خیرہ اثر کرتا ہے تو اللہ کا نام تو بہت بڑا نام ہے ہزاروں وساوس و تشویش میں جب انکا نام منہ سے نکل جائے گا اور دل میں اتر جائے گا تو اپنا کام دکھائے گا اور دل میں نور ہی پیدا ہو گا۔

حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا کہ آپکا بتایا ہوا ذکر کر رہا ہوں لیکن کوئی نفع نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت نے لکھا کہ اے ظالم کیا یہ کم نفع ہے کہ اتنے بڑے مولیٰ کا تو نام لیتا ہے، آہ کیا بات فرمائی۔

### ذکر کے نافع ہونے کی تیری عجیب مثال

اور تیری مثال یہ ہے کہ کمرے میں اندھرا ہے آپ کے دل میں وساوس و خیالات کا ہجوم ہے لیکن آپ ثوب لائٹ تک پہنچے اور انگلی سے اس کا سوچ دبا دیا تو تمام سوچ اور فکر و پریشانی کے باوجود ثوب لائٹ جلے گی یا نہیں؟ بس ہزاروں فکر، ہزاروں وساوس ہوں لیکن جب اللہ کا نام منہ سے نکل گیا تو سمجھ لو کہ تمام سوچیں دب گئیں، اللہ کا نور دل میں پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نور کی ثوب لائٹ آپ کے قلب میں روشن ہو گئی۔

ارے یارو جو خالق ہو شکر کا  
جمال شش کا نور قمر کا  
نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی  
حلاوت نامِ پاک کبریا کی

اللہ کے نام کے محسوس کو کیا کہتے ہو۔ مبارک ہیں وہ

بندے جو خدا کی یاد میں رو رہے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جن کے دل خدا کے عشق میں تڑپ رہے ہیں۔ باقی ساری دنیا کچھ قابل مبارک باد نہیں ان کی منی منی کے لئے رو رہی ہے، منی کے کھلونوں کے لئے، منی کی رنگینیوں کے لئے، منی کے ڈسپروں کیلئے رو رہی ہے، حرام محبت کے آنسوؤں کی قیمت گدھوں کے پیشاب کے برابر بھی نہیں ہے، حرام محبت میں روتا اللہ کے یہاں قبول نہیں۔

### اہل باطل کی صحبت سخت مضر ہے

اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ جس مصنف اور جس مقرر کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور علماء دین نے اس کو خطرناک اور نااہل قرار دیا ہو ایسے شخص کی تقریر و تحریر میں اس کے دل کے اندھیروں کی نخوست شامل ہو گی لہذا نہ اس کی تقریر سنو نہ اس کی تحریر پڑھو۔ اگر وہ قرآن و حدیث بھی پڑھائے گا اور کہے گا کہ قال اللہ و قال الرسول ﷺ تو اس کے دل میں جو باطل عقیدے ہیں مثلاً صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے یا کوئی بھی بد عقیدگی اس کے دل میں ہے تو یاد رکھو اس کی تقریروں کے سنبھال سے اور اس کی تحریروں کے پڑھنے سے دل میں اندھیرے پیدا ہوں گے جیسے کوئی حلوہ کھارہا ہو مگر چمچے میں پاخانہ لگا ہو تو حلوہ تو

اچھا ہے نا لیکن پاخانے کی آمیزش سے اس حلوہ سے تے ہونے لگے گی۔ قرآن پاک اور حدیث پاک کا کیا کہنا ہے لیکن جس ظالم کے دل کے اندر نجاست بھری ہوئی ہے اس کا علم گمراہی و ضلالت پھیلائے گا۔ اسلئے جس مقرر اور جس مصنف کو اللہ والوں نے گمراہ قرار دیا ہو، نہ اس کی کتاب دیکھو، نہ اس کی تقریر سو، نہ اس کے مصلے پر نماز پڑھو، اس کی ثوپی، لباس بھی مت پہنو کیونکہ دل میں اگر گندگی ہوتی ہے تو اس کے مصلے اس کی ثوپی اس کے لباس اس کی تسبیح، اس کے مکان غرض اس کی ہر چیز میں ظلمت و نحوست کا اثر ہوتا ہے۔

### صحبت اہل اللہ کے انوار و برکات

اس کے برعکس اللہ والوں کی کیا شان ہے؟ جس زمین پر پچے اللہ والے رہتے ہیں اس زمین پر جا کر سو قتل کے مجرم کی بھی معافی ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سو قتل کے مجرم کو حکم ہوا کہ جاؤ جہاں میرے خاص بندے رہتے ہیں وہاں کی زمین پر جا کر توبہ کرو تو ہم قبول کر لیں گے۔ سچان اللہ اس مٹی کو بھی اللہ عزت دیتا ہے جس پر پچے اللہ والے رہتے ہیں۔

## مطالعہ کتب کے متعلق ایک اہم مشورہ

اس لئے حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ جب کوئی کتاب پڑھو، اپنے بزرگوں سے مشورہ کرو کہ کیا میں فلاں کی تصنیف پڑھوں یا نہیں، بزرگان دین سے مشورہ کر کے پڑھو۔ پس اگر کسی کو تفسیر دیکھنی ہے تو تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی کی اور تفسیر معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بیان القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھو۔ جن کی دیانت، جن کا دین مستند ہے ان سے دین سیکھو۔ جب مستند چیز ملے تو غیر مستند دکان سے کیوں خریدتے ہو۔ جب مستند دکان میں معلوم ہو جائیں کہ یہ مٹھائی والے اصلی کبھی اور صحیح چیزیں ڈالتے ہیں تو سب انہیں دوکانوں سے خریدتے ہیں اور کسی دوکان کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ مٹھائی والے کبھی ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں جن سے کینسر پیدا ہو جاتا ہے تو اس دوکان سے خریدنا جائز نہیں۔

## دین کس سے سیکھنا چاہئے؟

ای طرح جس سے دین حاصل کرنا ہے پہلے خوب تحقیق کرو کہ تم کس سے دین سیکھ رہے ہو۔ جس لوئے سے پانی پینا چاہتے ہو پہلے اس میں جھاک کر دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے،

کہیں کوئی غلطات تو نہیں ملی ہوئی ہے۔ علامہ مجی الدین ابو زکریا  
نووی نے شرح مسلم میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا  
قول نقل کیا ہے کہاں هذَا الْعِلْمُ دِيْنٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ  
دِيْنَكُمْ (صحیح ۱۱ جلد ۱) اس علم کا حاصل کرنا یعنی دین ہے کہ  
پہلے تم خوب تحقیق کرو کہ دین تم کس شخص سے حاصل  
کر رہے ہو، اور اس نے دین کس سے سیکھا ہے ورنہ اندیشہ ہے  
کہ وہ سرور عالم ﷺ کے دین کے بجائے کسی اور جگہ پہنچا  
وَالْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ (شرح مسلم صحیح ۱۱ جلد ۱) یہ قول حضرت  
عبداللہ ابن مبارک کا ہے کہ اسناد کی دین میں بہت خاص اہمیت  
ہے جس کا سلسلہ اسناد راستہ میں منقطع ہو جائے اور سرور عالم  
ﷺ تک نہ پہنچے سمجھ لو کہ ایسے اشخاص اور ایسے افراد سے دین  
سیکھنا جائز نہیں۔ سمجھ لو کہ یہ لوگ صورتاً دیندار بنے ہوئے  
ہیں حقیقت میں ان کو دین حاصل نہیں کیونکہ یہ اہل اسناد سے  
وابستہ نہیں رہے اور انہوں نے دینی تربیت حاصل نہیں۔ خود  
مولوی نہیں ہیں مولوی بنے ہوئے ہیں یا اگر اصطلاحی مولوی  
بھی ہیں تو بغیر تربیت کے ہیں کیونکہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے  
اس لئے بعض احباب کو میں نے ہنسی بنسی میں قاعدہ کلیے بتا دیا  
کہ اس کو بابا مت بناؤ جس کا اگلا کوئی بابا نہ ہو۔ لا تأخذوه بابا  
من لا بابا له۔ جب کسی سے دین سیکھو تو معلوم کرو کہ آپ

نے کس سے تربیت کرائی، آپ نے کہاں سے دین سیکھا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کتنا ہی بڑا حکیم ڈاکٹر ہو مگر کسی پرانے ڈاکٹر حکیم کے ساتھ نہ رہا ہو تو قبرستان آباد کرے گا۔ حضرت سعدی شیرازی نے ایک حکیم کا قصہ لکھا ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان گیا اور آستین سے اپنا منہ چھپالیا۔ شاگردوں نے سوال کیا کہ استاد آپ آستین سے منہ کیوں چھپاتے ہیں۔ کہا ارے میں خالی کتاب پڑھ کر آیا تھا، کسی سے تربیت نہیں لی یہ سب میرے ہی غفلت علاج کے مارے ہوئے ہیں، مجھے ان مردوں سے شرم آرہی ہے۔ اس لئے یاد رکھو کتنا ہی بڑا عالم ہو اسکو تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ شیخ عبدالقدار جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اے علماء کرام مدرسون سے نکل کر مسجدوں کے منبر پر مت بیٹھو ورنہ متکبر بن جاؤ گے، تم سے بجائے فیض کے گندے اخلاق پیدا ہوں گے۔ پہلے جاؤ کسی اللہ والے سے اپنے نفس کو مٹاؤ اور اخلاص حاصل کرو پھر منبر تمہارا منبر ہو گا، تڑپتے ہوئے دل سے جب بیان کرو گے تو تمہارے منبر سے ہزاروں ولی اللہ بنیں گے۔ ورنہ تم گالیاں دو گے اور ایک دوسرے کی کاٹ کرو گے، تفرقہ اندازی اور پارٹی بازی کرو گے۔ جب دل میں اللہ نہ ہو گا تو انہیں واسیتات میں زندگی ضائع کرو گے۔

## عشق و محبت کے حدود

آج کل ایک مرض اور ہے ”ارے مولانا اس میں کیا حرج ہے“ کہ ہم نے یوں کر لیا یا دوس کر لیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی درزی کو نمونہ کے لئے ایک کرتہ دیدیں لیکن درزی نے ایک بالشت اور زیادہ کر دیا تو آپ کیا کہیں گے؟ درزی کہتا ہے کہ صاحب اس میں کیا حرج ہے میں نے تو آپ کے ساتھ بھلائی کی کہ کرتہ ایک بالشت زیادہ لمبا کر دیا ورنہ صوفی صاحب! آپ کا کپڑا ضائع ہو جاتا تو آپ کیا ناراض نہ ہوں گے کہ پھر میں نے نمونہ کس لئے دیا تھا، تم نے اس کے خلاف کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَمْوَأْ حَسَنَةً أَعْ دُنْيَا وَالْوَالِيَّ مِنْ أَنْ يُنْهِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ كُو تمہارے لئے نمونہ بناؤ کر بھیج رہا ہوں، تمہیں ان کے نمونے پر مرتا جینا ہے۔

## اسوہ حسنہ کے خلاف کوئی عمل قبول نہیں

تم کو اختیار نہیں کہ جہاں چاہو بڑھا لو اور جہاں چاہو کم کرلو۔ مغرب کی تین کے بجائے چار رکعات پڑھ لو کہ اس میں کیا حرج ہے، حرج یہ ہے کہ قبول نہ ہوگی۔ اذان لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے، اگر کوئی موزون اذان کے آخر میں محمد رسول اللہ بھی لگادے تو بتائیے اس کی اذان قبول ہوگی؟ حضور ﷺ

نے جو حد بندی، جو میڑ، جو نمونہ پیش کیا اسی نمونہ پر ہماری  
نجات ہوگی، اس لئے سنت کے خلاف کوئی کام کتنا ہی اچھا لگے  
وہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کا حسن ظاہری مت دیکھو، اس  
کی خباثت اور مردودیت کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ حضور ﷺ  
کے نمونے کے خلاف ہے۔ قیامت کے دن جب یہ لوگ پیش  
کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے یا رسول ﷺ ہمیں بھی جام کوثر  
پلا دیجئے تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دین  
میں نئی نئی باتیں نکالتے رہتے تھے۔ حضور ﷺ ان کو حوض کوثر  
سے بھگا دیں گے۔ اس جملہ سے وہ لوگ توبہ کریں جو کہتے ہیں  
کہ اس میں کیا حرج ہے۔ جو نمونہ حضور ﷺ کے نمونے کے  
خلاف ہے اس میں حرج ہی حرج ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔  
اب دو وظیفے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے آج جو وعدہ  
کیا ہے اس پر قائم رہنے کی ہمت حاصل ہو اور آئندہ پست ہمتی  
نہ ہو، شیر بننے کا جو ارادہ کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر شیطان ہم  
کو لومڑی بنادے۔ شیطان ایسا چال باز ہے کہ ذرا سی دیر میں  
شیر ان خدا کی گردن پکڑ کر دبا دیتا ہے اور ان کو چھوٹا سائز کا  
کر کے لومڑی بنا کر پیچھے دم بھی لگا دیتا ہے یعنی نیکوں کو فاسق  
بنادیتا ہے۔

## شیطان کی ایجاد اور اس کا ضرر عظیم

بدعت شیطان ہی نے ایجاد کی ہے۔ کیونکہ شیطان نے دیکھا کہ میں ان سے گناہ کرتا ہوں اور یہ خالم نادم ہو کر گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کر کے میری محنت کو رایگاں کر دیتے ہیں اور یہ بخشے بخشائے ہو جاتے ہیں اس لئے ایسی چیز ایجاد کرو جس سے ان کو توبہ نصیب نہ ہو۔ لہذا اس نے بدعت ایجاد کی کیونکہ بدعت کو یہ ثواب سمجھ کر کریں گے اور جس کام کو ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر، کریں گے تو توبہ کیے نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی چال ہے شیطان کی۔

## استقامت علی الدین کے لئے دو اہم وظیفے

لہذا دو وظیفے پیش کرتا ہوں تاکہ دین پر استقامت رہے۔ نمبر(۱) لا حول ولا قوة الا بالله ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ لیجئے اور اول آخر درود شریف صَلَّی اللہُ عَلَیْ النَّبِیِّ الْأَمِیْمِ اور دعا کرو کہ اے خدا اس کی برکت سے مجھے نیک عمل کی توفیق دے دے اور گناہ چھوڑنے کی ہمت دے دے۔

دوسرा عمل اللہُمَّ اذْخُنْنِی بِتَرْكِ الْمَعَاصِي۔ اے اللہ ہم پر اپنی وہ خاص رحمت نازل کر دے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں۔

مالک تعالیٰ شانہ کی طرف سے اپنے غلاموں کو پیغام دوستی

اے دنیا والو! اللہ اللہ ہے اور اے غلامو! مالک مالک ہے جو  
مستغفی ہے تمام عالم سے لیکن کیا کرم ہے کہ اس کریم مالک  
نے پیغام دوستی کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھایا ہے اپنے غلاموں کی  
طرف مالک نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اپنے غلاموں سے  
دوستی کی میری طرف سے پہل ہوئی ہے، تم نے پہل نبیں کی  
گناہ چھوڑنے میں تم نے پہل نبیں کی، میں تم سے کہتا ہوں  
کہ گناہ چھوڑ دو اور میرے ولی بن جاؤ کیونکہ میری ولایت گناہ  
چھوڑنے پر ہی موقوف ہے جیسا کہ میں نے قرآن پاک میں  
نازل فرمادیا کہ إِنَّ أُولَيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ میرے اولیاء صرف وہ  
ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں تو پیغام دوستی اللہ تعالیٰ نے اپنی  
طرف سے دیا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مَعَ  
الصَّادِقِينَ نازل فرمادیکر دوستی کا ہاتھ اپنے غلاموں کی طرف اللہ  
تعالیٰ نے بڑھایا ہے۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو تاکہ تم  
میرے دوست ہو جاؤ۔ تو دوستی کی پیشکش اللہ تعالیٰ کی طرف  
سے ہوئی ہے کیا یہ ان کا کرم نبیں ہے؟

ولی اللہ بننے کا طریقہ

لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ چھوڑنے کی ہمت تم کو

کب ہوگی مَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ جب اہل تقویٰ کی صحبت میں  
رہو گے اولینَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِنَّكُمْ الْمُتَّقُونَ اور صادقون  
اور متقون ایک ہی چیز ہے لیکن صادقین اس لئے نازل فرمایا  
تاکہ متقیٰ سچا ہو کیونکہ بعض لوگ صورت تو اہل تقویٰ کی بنا لیتے  
ہیں لیکن تقویٰ میں صادق نہیں ہوتے لہذا صدق فی التقویٰ  
مطلوب ہے اس لئے بجائے متقین کے یہاں صادقین اللہ نے  
نازل فرمایا۔

میں نے یہ چند باتیں عرض کر دیں کہ زندگی میں ایک بار  
اپنے بزرگوں ساتھ ایک چلہ لگالو۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ  
زندگی میں کم از کم چالیس دن کسی اللہ والے کے در پر بستر  
لگادو اور باہر مت نکلو پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں  
کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینہ میں ہم کو تمام گناہ چھوڑنے  
کی ہمت عطا فرمائیں تاکہ ہم پچے عاشق رسول بن جائیں۔

نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے

اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

(عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب مدظلوم العلی)